



سوال

(281) کیا بیوی پر شوہر کا کھانا پکانا ضروری ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنے خاوند کا کھانا پکائے؟ اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو کیا وہ اس کی وجہ سے گناہگار ہوگی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسلمانوں میں آج تک یہ معروف چلا آ رہا ہے کہ بیوی خاوند کی خدمت کرتی ہے اور وہ خدمت عادتاً معلوم ہے یعنی کھانا پکانا پڑے وغیرہ دھونا برتن صاف کرنا گھر کی صفائی کرنا اور اس طرح کے جو بھی مناسب کام ہیں وہ کرنا اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک معروف ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔

لیکن بیوی کو مشقت یا تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ یہ سب کچھ وہ حسب استطاعت عادت کے مطابق کرے گی۔ اس سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالنا مناسب نہیں اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔ (شیخ ابن جبرین)

حدا ما عنہم والنداء علم بالصواب

فتاویٰ نکاح و طلاق

ص 356

محدث فتویٰ